



## کروز جہاز کی صنعت

02 ستمبر 2021 کو [حکومت نے اعلان کیا کہ](#) آسٹریلیا میں کروز جہازوں کے آپریشن کے لئے بائیوسیکیوریٹی ایکٹ 2015 کے تحت انسانی بائیوسیکیوریٹی ایمرجنسی کی مدت میں تین ماہ کی توسیع کی جائے گی۔ جس میں درج ذیل چیزیں شامل ہیں:

- آسٹریلیا کی حدود اور آسٹریلیائی بندرگاہوں میں کروز جہازوں کے داخلے پر پابندی عائد کرنے والے موجودہ اقدامات میں **17 دسمبر 2021** تک توسیع؛ اور
- 100 یا اس سے زیادہ مسافروں کو لے جانے کے قابل کروز جہازوں پر ان پابندیوں کا اطلاق جاری رکھنا۔

ان پابندیوں میں براہ راست آمد اور راؤنڈ ٹرپ کروز (RTC) بھی شامل ہیں۔

## بڑے مسافر بردار جہاز

بڑے مسافر بردار جہازوں (99 افراد کی گنجائش کے ساتھ، مشمولی) کا عملہ آسٹریلیائی سفری پابندیوں سے مستثنیٰ نہیں ہے اور انہیں آسٹریلیا کا سفر کرنے سے پہلے سفری استثنیٰ حاصل کرنے درخواست جمع کرانی ہوگی۔ ایسا کرنے کے لئے [سفری استثنیٰ پورٹل](#) کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔

ہم صرف عملے کے ایسے ارکان کو ہی استثنیٰ دینے پر غور کریں گے جو جہاز کو محفوظ طریقے سے چلانے کے لئے درکار ہیں۔ جہاز کے داخلے سے آسٹریلیا کو اقتصادی طور پر بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ دیگر کاموں کے لئے، جیسے سروس یا مہمان نوازی کے کام کے لئے آسٹریلیا کے کارکنوں کو نوکری پر رکھا جانا چاہئے۔

آپ کو اپنی سفری استثنیٰ کے لئے درخواست کے ساتھ معاون ثبوت بھی فراہم کرنے ہوں گے، بشمول:

- داخلے کی وجہ اور آسٹریلیا کو ہونے والے اقتصادی فائدے کے ثبوت کی تصدیق
- جہاز کا موجودہ مقام
- آسٹریلیا میں آمد کا مجوزہ مقام
- سفری استثنیٰ کی درخواست میں شامل تمام عملے اور ملازمین کی مکمل تفصیلات، جس میں ان کو نوکری پر رکھنے کی وجہ بھی شامل ہے
- اس بات کی تصدیق کہ متعلقہ ریاست یا علاقائی حکومت کی ہدایت کے مطابق قرنطینیہ کیا جائے گا۔ اس میں متفقہ انتظامات کے بارے میں مشورے بھی شامل ہونے چاہئیں۔
- متعلقہ ریاست یا علاقائی حکومت کی جانب سے سپورٹ۔

## سمندری صنعت

سمندری جہاز کا عملہ (کروز جہازوں کے عملے کو چھوڑ کر) سفری پابندیوں سے مستثنیٰ ہے، اور انہیں آسٹریلیائی بارڈر فورس کمشنر کی جانب سے انفرادی طور پر استثنیٰ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

مستثنیٰ سمندری جہاز کے عملہ میں درج ذیل افراد شامل ہیں:

- وہ عملہ جو آسٹریلیا کی پانی کی حدود میں ایک تجارتی یا سرکاری جہاز (سوائے کروز اور سپریٹ جہازوں کے) کو چلاتا ہے یا اسے چلانے میں مدد کرنے کے لئے خدمات فراہم کرتا ہے
- سمندری پائلٹ
- سمندری سروے کرنے والے۔

تجارتی جہاز وہ ہے جو درج ذیل سرگرمیوں میں مشغول ہو:

- تجارتی کاروبار اور مال کا نقل و حمل
- بندرگاہ اور مرمت کی خدمات کی فراہمی
- اہم صنعتوں جیسے وسائل کی صنعتوں کو مدد فراہم کرنا
- سمندری سروے کرنا۔

اگر آپ کو اس زمرے کے تحت استثنیٰ حاصل ہے تو، آپ:

- آسٹریلیا میں داخل ہو سکتے ہیں جہاں آپ کے پاس مناسب ویزا ہو، اور روانہ ہو سکتے ہیں
- جہاں آپ کی آمد ہوتی ہے اُس آسٹریلیائی ریاست اور علاقہ میں آپ کو قرنطینہ کرنا ہوگا۔ اب بہت ساری ریاستوں اور علاقوں کی جانب سے یہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ آسٹریلیا پہنچنے والے (ہوائی جہاز کے ذریعے) بین الاقوامی بحری عملے اپنی آمد کے پہلے مقام پر 14 دنوں کے لئے لازمی قرنطینہ میں رہیں۔

ملاحظہ کریں [سمندری جہاز کے عملے کے لئے COVID-19 کے تقاضے](#)۔